

اللام التاكيد

laam Takeed .

(لام ابتداء / لام مزحلقة / لام تاكيد) یہ سب نام ایک ہی لام کے ہیں۔ جو مختلف صورتوں میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ اصل میں یہ لام تاکید کا ہے جو جملے میں تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔

Laam Muzahlaqa/ laam Takeed/Laam Ibtidah are one and the same Laam used in different cases for emphasis.

اللام ابتداء: کبھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ لام مبتداء کے شروع میں آتا ہے تب اس لام کو اللام ابتداء کہتے ہیں۔

كَبَيْتِكَ أَجْمَلُ یقیناً تمہارا گھر زیادہ خوبصورت ہے۔ Indeed your house is more beautiful.

The Laam used in Jumlah Ismiyah for emphasis is called Laam Ibtidah. It comes before Muftada

﴿وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (النزعات: 26)

اور آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ ہے کاش وہ جانتے

But the punishment of the Hereafter is greater, if they only knew.

اللَّامُ الْمُخَلَّقَةُ

اگر لام ابتداء جملہ اسمیہ میں مبتداء پر موجود ہے اور اس پر إِنَّ داخل کرنا چاہیں تو لام ابتداء مبتداء سے ہٹ کر إِنَّ کی خبر پر آجائے گا۔ اس لیے کہ دو حرف تاکید ایک ساتھ ایک ہی اسم پر نہیں آسکتے، لام ابتداء مبتداء سے پھسل کر إِنَّ کی خبر پر چلا گیا تو اب اس کا نام لام ابتداء نہیں رہے گا۔ بلکہ "اللَّامُ الْمُخَلَّقَةُ" کہلائے گا۔

If we want to use Inna also in the sentence, the Lam has to push to the khabar Inna as two particles of emphasis cannot come together in one place. After its removal from its original position the lam is no longer called lam al-ibtida. It is now called Laam Muzahlaqa. So the sentence become, إِنَّ نَيْبِكَ كَأَجْمَلٍ Indeed your house is more beautiful.

ایسا جملہ جس میں إِنَّ اور اللَّامُ الْمُخَلَّقَةُ دونوں ہوں اس جملے میں زیادہ تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ الفاظ کو محسوس کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ وہ تاکید کا اصل مفہوم بیان نہیں کر سکتے۔

A sentence with both Inna and the Lam is more emphatic than one with Inna or the Lam only.

(ز ح ل ق) رَزَحَلَقَ کا معنی ہے پھسلنا، ریٹلنا

جملہ اسمیہ میں إِنَّ کے آنے سے لام ابتداء مبتداء سے پھسل کر خبر پر چلا جاتا ہے اس لیے اسے لام مُخَلَّقَةُ (پھسلنے والا) لام کہتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد تاکید پیدا کرنا ہے۔

رَزَحَلَقَ means to slip, to crawl. The Laam Ibtidah, because of occurrence of Inna, slips from Muftada to Khabar. So it is called Laam Muzahlaqa (Skating Laam). Its basic purpose is emphasis.

اور جب جار مجرور مقدم ہو اور " إِنَّ " کی خبر محذوف مقدم ہو تو (لام مُخَلَّقَةُ) إِنَّ کے اسم مؤخر پر داخل ہوتا ہے۔

When Khabar of Inna is a Shibhu Jumla Muqaddam then this Laam occurs on Ism Muakhar of Inna.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ (النور: 26)

بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے

Indeed in that is a warning for whoever would fear [Allah]